

Name :> Fana warraich

Serial No :> 4958

Address :> USA

Fatwa No :> 39361

Subject :> wellcome

Date :> 8/3/2008

Writer :> نواز احمد

Email :>

bismihī subh'anhu wa taa'laa:- sawal aik english lafz "wellcome" say mutalliq hai. . sunnay mein' aaya tha k yeh arabi lafz" wailul lakum (U^UO U,, U,?@U...) kai mumaasil hai. . isliyai isay na bolna behter hai. . or yeh baat ghaaliban Quran ki us ayat k zail mein' aai. . jis mein' Musalmaanon' ko aik aisay lafz k bolnay say mana farmaya gaya tha. . jisay boltay huay ehl-e-kitaab bigaar' diya kertay thay. . is baat ki asal kya hai? kya waqae is say ijinaab behter hai? ya yeh bayasl baat hai? jazakumullah

محترم جناب مفتی صاحب

میرا سوال Wellcome ویلکم (ٹولس آمدید!) سے متعلق ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ عربی لفظ ویلکم کا مماثل ہے اس لیے اسے نہ بولنا بہتر ہے اور یہ بت غالباً قرآن پاک کی کسی آیت کی ذیل سے آئی جس میں مسلمانوں کو ایک ایسے لفظ کہ بولنے سے منع فرمایا گیا تھا جسے بولتے ہوئے اہل کتاب بگاڑ دیا کرتے تھے۔ اس بات کی اصل کیا ہے؟ کیا واقعی اس سے اجتناب بہتر ہے؟ یا یہ بے اصل بات ہے؟

فنا دراپنج امریکہ

الجواب حامداً ومصلياً

مذکور لفظ "ویلکم" انگریزی کا ہے جو کسی کی آمد پر "خوش آمدید" کے طور پر بولا جاتا ہے اس کا کہنا اگرچہ جائز ہے مگر آج کل اپنی مادری زبان چھوڑ کر انگریزی الفاظ استعمال کرنے کی جو سوجھ بوجھ بڑی ہے غلامانہ ذہن کی عکاس ہے اس سے اجتناب لازم ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

مذہب نواز احمد عفی عنہ

ذرائع الافتاء وجامعہ بنوریہ کراچی

۱۶ رمضان المبارکی ۱۴۲۹ھ

کو اچھا  
مذہب نواز احمد عفی عنہ  
ذرائع الافتاء وجامعہ بنوریہ کراچی  
۱۶ رمضان المبارکی ۱۴۲۹ھ



نواز احمد  
21/9/08